





Kontrolniki na plošči na dotik

| | | |
|---|----------------------------|--|
|  | Predvajanje/premor | Pritisnite za predvajanje/premor |
|  | Naslednja/prejšnja skladba | • Pomaknite naprej za predvajanje naslednje skladbe • Pomaknite nazaj za predvajanje prejšnje skladbe |
|  | Nastavitev glasnosti | • Pomaknite navzgor, da povečate glasnost • Pomaknite navzdol za zmanjšanje glasnosti |



Ponovno seznanjanje slušalk:

1. Prenesite aplikacijo PairTool s spletnega mesta <http://www.asus.com> in jo namestite v računalnik.
2. Izberite **Start > All Programs (Vsi programi)** in zaženite PairTool.
3. Vstavite vmesnik USB v vhod USB na računalniku in priključite slušalke Fusion Wireless na računalnik s kablom USB.
4. Ko območje za seznanjanje v aplikaciji PairTool postane zeleno, so slušalke in vmesnik uspešno seznanjeni.



Ravnanje z baterijo

- Baterije ne razstavlajte ali odstranjujte. V nasprotnem primeru lahko povzročite škodo ali telesno poškodbo.
- Zaradi lastne varnosti upoštevajte opozorilne nalepke.
- Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z baterijo neprimerne tipa.
- Baterije ne smete vreči v ogenj.
- Če baterija pušča, prenehajte uporabljati napravo.
- Baterijo in njene komponente je treba ustrezno reciklirati ali zavreči.
- Baterijo in druge majhne komponente hranite zunaj dosega otrok.

Pravilno odlaganje



Tega izdelka NE zavržite med komunalne odpadke. Ta izdelek je bil zasnovan tako, da omogoča ponovno uporabo delov in recikliranje. Simbol prekrižanega smetnjaka nakazuje, da se izdelek (električna, elektronska oprema in baterije, ki vsebujejo živo srebro) ne sme odlagati na javno smetišče. Preverite lokalne predpise, ki določajo odstranitev elektronskih izdelkov.



Tega izdelka NE zavržite med komunalne odpadke. Simbol prekrižanega smetnjaka ponazarja, da se baterij ne sme odlagati skupaj s komunalnimi odpadki.

GAMING HEADSET

ROG STRIX FUSION WIRELESS

Sadržaj paketa

- 1 x ROG Strix Fusion Wireless slušalice sa mikrofonom za igrice
- 1 x 2.4GHz bežični USB dongl
- 1 x USB u mikro-USB kabl za punjenje
- 2 x ROG hibridni jastučići za uši
- 1 x Vodič za brzo korišćenje
- 1 x Garancija

Sistemske zahteve


- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- Internet veza (za preuzimanje opcionog softvera)
- USB 2.0 port

Početak

För att installera din ROG Strix Fusion Wireless:




1. Povežite 2.4GHz bežični USB dongl za svoj uređaj.
2. Pritisnite taster za napajanje u trajanju od 2 sekunde da uključite svoje ROG STRIX Fusion Wireless slušalice sa mikrofonom i one će automatski početi da se uparuju sa donglom.


Opcije uređaja



- A. Jastučice za uvo koje je moguće promeniti
- B. Taster za napajanje
- C. Indikator statusa
 - Napajanje uključeno: statično plavo svetlo
 - Prilikom punjenja: statično crveno svetlo
 - U potpunosti napunjeno: bez svetla
 - Malo preostalog napajanja: trepćuće ljubičasto svetlo
- D. Dodirna ploča
- E. Micro USB 2.0 priključak
- F. Baterija od koja se ne menja
Trajanje baterije: 16 hrs
- G. 2.4GHz bežični USB dongl

Kontrola dodirne ploče

| | | |
|---|-------------------------|---|
|  | Reprodukovali/pauzirali | Pritisnite Play/Pause da biste |
|  | Sledeća/prethodna pesma | • Pomerite napred da pustite sledeću pesmu • Pomerite nazad da pustite prethodnu pesmu |
|  | Kontrola jačine tona | • Pomerite naviše da pojačate ton • Pomerite naniže da smanjite ton |



Ponovno uparivanje vaših slušalica sa mikrofonom:

1. Preuzmite PairTool sa prezentacije <http://www.asus.com> i potom ga instalirajte na svoj kompjuter.
2. idite na **Start > All Programs (Svi programi)** da pokrenete PairTool.
3. Ubacite USB dongl u USB ulaz na svom kompjuteru i Fusion bežične slušalice sa mikrofonom u svoj kompjuter preko USB kabla.
4. Kada područje za uparivanje na PairTool-u postane zeleno, vaše slušalice i dongl su uspešno upareni.



Staranje o bateriji

- Ne rasklapajte i ne uklanjajte bateriju. To može da dovede do oštećenja ili fizičke povrede.
- Pratite etikete sa upozorenjima radi sopstvene bezbednosti.
- Rizik od eksplozije ukoliko se baterija zameni nekorektnim tipom.
- Ne bacajte bateriju u vatru.
- Prestanite da koristite uređaj ukoliko baterija curi.
- Bateriju i njene komponente morate da reciklirate ili odbacite na ispravan način.
- Držite bateriju i druge male komponente dalje od dohvata dece.

Pravilno odlaganje



NE bacajte ASUS Phone u običan otpad. Ovaj proizvod je dizajniran tako da omogući ispravno ponovno korišćenje delova i može da se reciklira. Simbol sa precrtanom kantom sa točkicama znači da proizvod (električna, elektronska oprema i dugmaste baterije koje sadrži živu) ne treba odlagati kao obično smeće. Proverite lokalne regulative vezane za uklanjanje elektronskih proizvoda.



NEMOJTE da odbacujete ovaj proizvod sa ostalim kućnim smećem. Simbol precrtane kante sa točkicama ukazuje na to da bateriju ne treba odbacivati kao uobičajeno smeće.

GAMING HEADSET

ROG STRIX FUSION WIRELESS

Paketets innehåll

- 1 x ROG Strix Fusion Wireless spelheadset
- 1 x 2,4 GHz trådlös USB-dongel
- 1 x Laddningskabel USB till micro-USB
- 2 x ROG Hybrid öronkuddar
- 1 x Snabbstartsguide
- 1 x Garant

Systemkrav


- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- Internetanslutning (för nedladdning av tillvalsprogram)
- USB 2.0-port

Komma igång

För att installera din ROG Strix Fusion Wireless:




1. Anslut den trådlösa 2,4 GHz USB-dongeln till din enhet.
2. Tryck på strömbrytaren i 2 sekunder för att starta ditt ROG STRIX Fusion Wireless-headset, så börjar det automatiskt att länka till dongeln.


Produktöversikt



- A. Bytbara öronkuddar
- B. Strömbrytare
- C. Statusindikator
 - Ström på: fast blått ljus
 - Under laddning: fast rött ljus
 - Fulladdad: ingen lampa
 - Låg effekt: blinkande lila ljus
- D. Pekplatta
- E. Micro USB 2.0-anslutning
- F. Fast batteri
 - Batterilivslängd: 16 tim.
- G. 2,4 GHz trådlös USB-dongle

Kontroll med pekplatta

| | | |
|---|----------------------|---|
|  | Spela/Pausa | Tryck för att spela/pausa |
|  | Nästa/föregående låt | <ul style="list-style-type: none">• Scrolla framåt för att spela nästa låt• Scrolla bakåt för att spela föregående låt |
|  | Volymkontroll | <ul style="list-style-type: none">• Scrolla upp för att öka volymen• Scrolla ner för att sänka volymen |



Länka ditt headset igen:

1. Hämta PairTool från <http://www.asus.com> och installera det på datorn.
2. Gå till **Start > All Programs (Alla program)** för att starta PairTool.
3. Sätt i USB-dongel i en USB-port på datorn och Fusion Wireless-headsetet till datorn via en USB-kabel.
4. När länkningsområdet i PairTool blir grönt har headsetet och dongeln länkats.



Batterivård

- Ta inte isär eller ta ur batteriet. Det kan orsaka skador eller fysisk skada.
- Följ varningsetiketterna för din personliga säkerhet.
- Risk för explosion om batteriet byts ut mot felaktig sort.
- Kasta inte batterierna i elden.
- Sluta att använda enheten om batteriet läcker.
- Batteriet och dess delar måste återvinnas eller kasseras på rätt sätt.
- Förvara batteriet och andra små delar utom räckhåll för barn.

Proper Disposal



Kasta INTE denna produkt i de vanliga hushållssoporna. Denna produkt har konstruerats för att möjliggöra korrekt återanvändning av delar och för återvinning. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att produkten (elektriska och elektroniska utrustningar samt knappcells-batterier som innehåller kvicksilver) inte får kastas i de vanliga hushållssoporna. Kontrollera de lokala bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.



Kasta INTE denna produkt i de vanliga hushållssoporna. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte får kastas i de vanliga hushållssoporna.

Ігрова гарнітура ROG STRIX FUSION WIRELESS

Вміст комплекту

- 1 x ігрова гарнітура ROG Strix Fusion Wireless
- 1 x бездротовий адаптер USB 2,4 ГГц
- 1 x зарядний кабель USB — Micro USB
- 2 x чашки навушників ROG Hybrid
- 1 x стислий посібник з експлуатації
- 1 x гарантійний талон

Системні вимоги


- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- Інтернет-підключення (для завантаження додаткового ПЗ)
- Порт USB 2.0

Початок експлуатації

Для налаштування ROG Strix Fusion Wireless:




1. Підключіть бездротовий адаптер USB 2,4 ГГц до пристрою.
2. Натисніть та утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, щоб увімкнути гарнітуру ROG STRIX Fusion Wireless, і вона автоматично почне створення пари з адаптером.


Огляд виробу



- A. Змінні чашки навушників
- B. Кнопка живлення
- C. Індикатор стану
 - Увімкнено: постійно світиться блакитним
 - Зарядження: постійно світиться червоним
 - Повністю заряджено: не світиться
 - Низький рівень заряду: мерехтить фіолетовим
- D. Сенсорна пластина
- E. Сполучувач Micro USB 2.0
- F. Незмінна батарея
 - Час роботи батареї: 16 год.
- G. Бездротовий адаптер USB 2,4 ГГц

Керування за допомогою сенсорної пластини

| | | |
|---|-------------------------------|--|
|  | Програти/поставити на паузу | Натисніть, щоб програти/поставити на паузу |
|  | Наступна/попередня композиція | <ul style="list-style-type: none">• Прокрутіть вперед, щоб програти наступну пісню• Прокрутіть назад, щоб програти попередню композицію |
|  | Контроль гучності | <ul style="list-style-type: none">• Прокрутіть вгору, щоб збільшити гучність• Прокрутіть вниз, щоб зменшити гучність |



Повторне створення пари:

1. Завантажте інструмент PairTool з <http://www.asus.com> та встановіть його на свій комп'ютер.
2. Перейдіть до **Start (Пуск) > All Programs (Всі програми)** для запуску PairTool.
3. Вставте адаптер у порт USB на комп'ютері та підключіть гарнітуру Fusion Wireless до комп'ютера кабелем USB.
4. Коли індикатор створення пари PairTool почне світитися зеленим кольором, це означає, що вашу гарнітуру та адаптер успішно поєднано в пару.



Догляд за батареєю

- Не виймайте та не розбирайте батарею. Це може спричинити травми й ушкодження.
- Заради власної безпеки дотримуйтеся вказаного на ярликах.
- Ризик вибуху, якщо батарею замінити неправильною.
- Не кидайте батарею у вогонь.
- Припиніть користування пристроєм, якщо батарея протікає.
- Батарею та її компоненти слід правильно переробляти або утилізувати.
- Тримайте батарею та інші дрібні компоненти там, де їх не дістануть діти.

Утилізація



НЕ ВИКИДАЙТЕ виріб разом із побутовим сміттям. Цей продукт призначений для повторного використання та переробки. Символ перекресленого сміттевого бака означає, що продукт (електричне та електронне устаткування, а також акумулятори, що містять ртуть) не можна викидати разом із побутовим сміттям. Ознайомтеся із правилами утилізації таких продуктів.



НЕ ВИКИДАЙТЕ виріб разом із побутовим сміттям. Символ перекресленого сміттевого бака означає, що акумулятор не можна викидати разом із побутовим сміттям.

GAMING HEADSET ROG STRIX FUSION WIRELESS

สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ

- หูฟังสำหรับการเล่นเกม ROG Strix Fusion Wireless จำนวน 1 ซี
- ดอกรีสาย USB ไร้สาย 2.4GHz 1 ซี
- สายชาร์จ micro-USB เป็น USB 1 ซี
- ที่รองหูสำหรับหูฟัง ROG Hybrid จำนวน 2 คู่
- คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ 1 ฉบับ
- บัตรรับประกัน 1 ใบ

ความต้องการของระบบ


- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (สำหรับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เสริม)
- พอร์ต USB 2.0

เริ่มต้นใช้งาน

ในการตั้งค่า ROG Strix Fusion Wireless:




1. เชื่อมต่อดอกรีสาย USB ไร้สาย 2.4GHz เข้ากับอุปกรณ์ของคุณ
2. กดปุ่มเพาเวอร์เป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อเปิดชุดหูฟัง ROG STRIX Fusion Wireless จากนั้นจะเริ่มต้นจับคู่กับดอกรีสายโดยอัตโนมัติ


ภาพรวมของผลิตภัณฑ์



- A. ที่รองหูแบบเปลี่ยนได้
- B. ปุ่มเพาเวอร์
- C. ไฟแสดงสถานะ
 - เปิดเครื่อง: ไฟสีน้ำเงินหยุดนิ่ง
 - ขณะชาร์จ: ไฟสีแดงหยุดนิ่ง
 - ชาร์จเต็มแล้ว: ไม่มีไฟ
 - กระแสไฟต่ำ: ไฟสีม่วงกะพริบ
- D. แผ่นสัมผัส
- E. ขั้วต่อไมโคร USB 2.0
- F. แบตเตอรี่ขนาดแบบไม่สามารถเปลี่ยนได้
อายุแบตเตอรี่: 16 ชม.
- G. ดอกรีสาย USB ไร้สาย 2.4GHz

ตัวควบคุมแผ่นสัมผัส

| | | |
|---|------------------------|---|
|  | เพื่อเล่น/หยุดชั่วคราว | กด เล่น/หยุดชั่วคราว |
|  | เพลงถัดไป/ก่อนหน้า | <ul style="list-style-type: none"> • เลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเล่นเพลงถัดไป • เลื่อนถอยหลัง เพื่อเล่นเพลงก่อนหน้า |
|  | ตัวควบคุมระดับเสียง | <ul style="list-style-type: none"> • เลื่อนขึ้นเพื่อเพิ่มระดับเสียง • เลื่อนลงเพื่อลดระดับเสียง |



การจับคู่ชุดหูฟังอีกครั้ง

1. ดาวน์โหลด PairTool จาก <http://www.asus.com> จากนั้นติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. ไปที่ Start (เริ่มต้น) > All Programs (โปรแกรมทั้งหมด) เพื่อเปิดใช้งาน PairTool
3. เสียบคองเกิล USB เข้ากับพอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ของคุณและชุดหูฟัง Fusion Wireless เข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสายเคเบิล USB
4. เมื่อบริเวณการจับคู่ใน PairTool เปลี่ยนเป็นสีเขียว แสดงว่าชุดหูฟังและคองเกิลจับคู่กันเรียบร้อยแล้ว



การดูแลรักษาแบตเตอรี่

- ห้ามถอดชิ้นส่วนหรือถอดแบตเตอรี่ออก การกระทำเช่นนั้นอาจเป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
- ปฏิบัติตามฉลากค่าเดือนเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเอง
- ถ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง อาจมีความเสี่ยงจากการระเบิด
- อย่าทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟ
- หยุดการใช้อุปกรณ์หากมีการรั่วไหลของแบตเตอรี่
- แบตเตอรี่และชิ้นส่วนประกอบต้องนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดอย่างถูกต้อง
- เก็บแบตเตอรี่และชิ้นส่วนขนาดเล็กอื่น ๆ ใหห่างจากมือเด็ก

การทิ้งอย่างเหมาะสม



อย่าทิ้งเครื่อง ASUS Phone ปะปนกับของเสียในชุมชน ใต้รับการออกแบบเพื่อให้นำชิ้นส่วนต่างๆ มาใช้ซ้ำ และ รีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มี เครื่องหมายกากบาท เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ และแบตเตอรี่หรือยี่ห้อที่มี ส่วนประกอบของปรอท) ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจาก ภายในบ้าน ตรวจสอบกฎระเบียบในท้องถิ่น เกี่ยวกับวิธีกำจัด เครื่องใช้ไฟฟ้า



อย่าทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ปะปนกับของเสียทั่วไปภายในบ้าน สัญลักษณ์ถังขยะมีล้อถูกขีดฆ่ามีความหมายว่าห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในถังขยะ ของชุมชน

GAMING HEADSET ROG STRIX FUSION WIRELESS

Isi kemasan

- 1 x Headset Gaming ROG Strix Fusion Wireless
- 1 x Dongle USB nirkabel 2,4 GHz
- 1 x Kabel pengisi daya USB to micro USB
- 2 x Bantalan telinga ROG Hybrid
- 1 x Panduan singkat
- 1 x Kartu garansi

Persyaratan sistem


- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- Koneksi Internet (untuk download perangkat lunak opsional)
- Port USB 2.0

Persiapan

Untuk konfigurasi ROG Strix Fusion Wireless:




1. Sambungkan dongle USB nirkabel 2,4 GHz.
2. Tekan tombol daya selama 2 detik untuk menyalakan headset ROG STRIX Fusion Wireless. Headset akan mulai proses pair dengan dongle secara otomatis.


Ikhtisar Produk



- A. Bantalan telinga yang dapat diganti
- B. Tombol daya
- C. Indikator Status
 - Daya hidup: lampu biru statis
 - Saat mengisi daya: lampu merah statis
 - Daya terisi penuh: lampu tidak menyala
 - Daya hampir habis: lampu ungu berkedip
- D. Touch plate
- E. Konektor micro USB 2.0
- F. Baterai yang tidak dapat diganti
Daya tahan baterai: 16 jam
- G. Dongle USB nirkabel 2,4GHz

Kontrol Touch Plate

| | | |
|---|--------------------------------|---|
|  | Me Play/Pause | Tekan untuk Play/Pause |
|  | Lagu berikutnya/ sebelumnya | - Scroll maju untuk memutar lagu berikutnya - Scroll mundur untuk memutar lagu sebelumnya |
|  | Kontrol volume | - Scroll ke atas untuk menambah volume suara - Scroll ke bawah untuk menambah volume suara |



Pairing ulang headset:

1. Download PairTool dari <http://www.asus.com> , lalu instal di komputer.
2. Buka **Start (Mulai)**> **All Programs (Semua Program)** untuk membuka PairTool.
3. Masukkan dongle USB ke port USB di komputer, dan sambungkan headset Fusion Wireless ke komputer melalui kabel USB.
4. Bila pair area di PairTool berubah menjadi hijau, berarti proses pair headset dan dongle sudah berhasil dipasangkan.



Penanganan Baterai

- Jangan bongkar atau keluarkan baterai karena dapat berbahaya atau mengakibatkan cedera fisik.
- Ikuti label peringatan untuk keselamatan diri.
- Risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Jangan buang baterai ke dalam api.
- Hentikan penggunaan perangkat jika baterai bocor.
- Baterai dan komponennya harus didaur ulang atau dibuang dengan benar.
- Jauhkan baterai dan komponen kecil lainnya dari jangkauan anak-anak.

Pembuangan yang tepat



JANGAN buang produk ini bersama limbah rumah tangga. Produk ini dirancang agar komponennya dapat digunakan kembali dengan layak dan didaur ulang. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa produk ini (listrik, peralatan listrik, dan baterai sel koin yang mengandung merkuri) tidak boleh dibuang di tempat sampah umum. Untuk membuang produk elektronik, patuhi peraturan yang berlaku di kota Anda.



JANGAN buang produk ini bersama limbah rumah tangga. Simbol tempat sampah disilang menunjukkan bahwa baterai ini tidak boleh dibuang di tempat sampah umum.

게이밍 헤드셋 ROG STRIX FUSION 무선

포장 내용물

- ROG Strix Fusion 무선 게이밍 헤드셋 1개
- 2.4GHz 무선 USB 동글 1개
- 마이크로-USB 연결 충전 USB 케이블 1개
- ROG 하이브리드 이어 쿠션 2개
- 빠른 시작 설명서 1권
- 보증서 1부

시스템 요구 사항


- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- 인터넷 연결(옵션 소프트웨어의 다운로드를 위해)
- USB 2.0 포트

시작하기

ROG Strix Fusion 무선을 설치하는 방법:




1. 2.4GHz 무선 USB 동글을 사용자의 장치에 연결합니다.
2. 전원 버튼을 2초 동안 눌러 ROG STRIX Fusion 무선 헤드셋을 켜면 동글과의 페어링이 자동으로 시작됩니다.


제품 개요



- A. 교환 가능한 이어 쿠션
- B. 전원 버튼
- C. 상태 표시등
 - 전원 켜기: 청색 표시등 점등
 - 충전 중: 적색 표시등 점등
 - 충전 완료: 표시등이 켜지지 않음
 - 전원 부족: 자주색 표시등 점멸
- D. 터치 플레이트
- E. 마이크로 USB 2.0 커넥터
- F. 교환할 수 없는 배터리
 - 배터리 수명: 16 시간
- G. 2.4GHz 무선 USB 동글

터치 플레이트 조절 버튼

| | | |
|---|------------|---|
|  | 재생 / 일시 중지 | 누르면 재생 / 일시중지됩니다. |
|  | 다음 / 이전 곡 | <ul style="list-style-type: none"> • 앞으로 스크롤하여 다음 곡을 재생합니다. • 뒤로 스크롤하여 이전 곡을 재생합니다. |
|  | 볼륨 조절 버튼 | <ul style="list-style-type: none"> • 위로 스크롤하여 볼륨을 높입니다. • 아래로 스크롤하여 볼륨을 낮춥니다. |



헤드셋을 다시 페어링하기:

1. <http://www.asus.com> 에서 PairTool을 다운로드하여 이를 사용자의 컴퓨터에 설치합니다.
2. **Start(시작) > All Programs(모든 프로그램)**으로 이동하여 PairTool을 시작합니다.
3. USB 동글을 사용자 컴퓨터의 USB 포트에 삽입하고 USB 케이블을 통해 Fusion 무선 헤드셋을 사용자의 컴퓨터에 연결합니다.
4. PairTool의 페어링 영역이 녹색으로 바뀌면 헤드셋과 동글이 성공적으로 페어링된 것입니다.



배터리 관리

- 배터리를 분해하거나 제거하지 마십시오. 그럴 경우 유해하거나 신체적 상해를 입을 수 있습니다.
- 개인 안전을 위한 경고 라벨의 주의사항을 준수하십시오.
- 종류가 다른 배터리로 교체할 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 배터리를 불 속에 던지지 마십시오.
- 배터리 액이 누출되면 장치를 사용하지 마십시오.
- 배터리 및 이의 구성품은 적절한 방법으로 재활용하거나 폐기해야 합니다.
- 배터리와 기타 소형 부품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

올바른 폐기



이 제품은 일반 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 이 제품은 부분별 재사용 또는 재활용을 위해 특별하게 설계되었습니다. 바퀴 달린 쓰레기통 위에 X 표시가 된 라벨이 부착된 제품 (전기 전자 제품, 수은을 포함하고 있는 셀 배터리)은 일반 쓰레기와 함께 폐기해서는 안됩니다. 전자 제품 폐기에 관련된 지역 규정을 확인해 주십시오.



이 제품은 일반 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 본 라벨은 배터리를 일반 쓰레기와 함께 폐기해서는 안됨을 의미합니다.

GAMING HEADSET ROG STRIX FUSION WIRELESS

Contenido del empaque

- 1 x Audífonos para juegos ROG Strix Fusion Wireless
- 1 x Adaptador USB inalámbrico de 2.4 GHz
- 1 x Cable de carga USB a micro-USB
- 2 x Almohadillas para oídos ROG Hybrid
- 1 x Guía de inicio rápido
- 1 x Garantía

Requisitos del sistema


- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- Conexión a Internet (para descargar software opcional)
- Puerto USB 2.0

Configuración

Como configurar sus audífonos ROG Fusion Wireless :




1. Conectar su adaptador USB inalámbrico de 2.4 GHz a su dispositivo.
2. Presionar el botón de encendido por 2 segundos para encender su auricular ROG STRIX Fusion Wireless y empezará a sincronizarse con el adaptador automáticamente.


Resumen del Producto



- A. Almohadilla para el oído intercambiable
- B. Botón de encendido
- C. Indicador de Estado
 - Encendido: luz azul estática
 - Durante la carga: luz roja estática
 - Carga completa: sin luz
 - Batería baja: luz morada parpadeando
- D. Panel Táctil
- E. Conector Micro USB 2.0
- F. Batería no reemplazable
Vida de la batería: 16 Hras
- G. Adaptador USB inalámbrico de 2.4 GHz

Control de la panel táctil

| | | |
|---|----------------------------|---|
|  | Reproducir/pausar | Presionar para reproducir/pausar. |
|  | Siguiente/anterior canción | • Deslizar hacia delante para reproducir la canción siguiente. • Deslizar hacia atrás para reproducir la canción anterior. |
|  | Control de volumen | • Deslizar hacia arriba para subir el volumen. • Deslizar hacia abajo para bajar el volumen. |



Sincronizar su auricular nuevamente:

1. Descargar el software PairTool desde <http://www.asus.com> e instalarlo en su computadora.
2. Ir a **Start (Inicio) > All Programs (Todos los Programas para)** ejecutar PairTool.
3. Insertar el adaptador USB en un puerto USB en su computadora y el auricular Fusion Wireless a su computadora por medio del cable USB.
4. Cuando el área de sincronización en PairTool se vuelva verde, su auricular y el adaptador se han sincronizado correctamente.



Cuidado de la batería

- No retirar o desarmar la batería. Hacer eso puede ocasionar daño o lesiones.
- Obedecer las etiquetas de advertencia por su seguridad personal.
- Existe riesgo de explosión si la batería se reemplaza por el tipo incorrecto.
- No arrojar la batería al fuego.
- Deje de usar la batería si hay fugas de fluidos de la misma.
- La batería y sus componentes deben reciclarse y desecharse adecuadamente.
- Mantener la batería y otros componentes pequeños fuera del alcance de los niños.

Desecho adecuado del producto



NO arrojar este producto directamente a la basura. Este producto se ha diseñado para permitir la reutilización adecuada y el reciclaje de sus componentes. El icono del bote de basura tachado indica que el producto y sus componentes (eléctricos, electrónicos y pila de botón) no deben ser arrojados a la basura. Consultar la normatividad local aplicable para desechos electrónicos.



NO arrojar este producto directamente a la basura municipal. El icono del bote de basura tachado indica que la batería no debe arrojarse a la basura municipal.

GAMING HEADSET ROG STRIX FUSION WIRELESS

Obsah balenia

- Hracia náhlavná súprava ROG Strix Fusion Wireless, 1 ks
- 2,4 GHz bezdrôtový USB hardvérový kľúč, 1 ks
- Kábel na nabíjanie s konektorom USB a micro-USB, 1 ks
- Hybridné náušníky ROG, 2 ks
- Príručka so stručným návodom, 1 ks
- Záručný list, 1 ks

Požiadavky na systém


- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- Internetové pripojenie (na prevzatie voliteľného softvéru)
- Port USB 2.0

Začíname

Nastavenie ROG Strix Fusion Wireless:




1. 2,4 GHz bezdrôtový USB hardvérový kľúč pripojte k zariadeniu.
2. Na 2 sekundy stlačte hlavný vypínač, čím zapnete náhlavnú súpravu ROG STRIX Fusion Wireless a automatické párovanie s hardvérovým kľúčom.


Prehľad výrobku



- A. Vymeniteľný náušník
- B. Hlavný vypínač
- C. Indikátor stavu
 - Zapnutie: neprerušovane svieti modré svetlo
 - Počas nabíjania: neprerušovane svieti červené svetlo
 - Úplné nabitie: žiadne svetlo
 - Slabé nabitie: bliká purpurové svetlo
- D. Dotyková doska
- E. Konektor Micro USB 2.0
- F. Nenabíjateľná batéria
 - Výdrž batérie: 16 h
- G. 2,4 GHz bezdrôtový USB hardvérový kľúč

Ovládanie dotykovej dosky

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
|  | Prehrávanie/Pauzu | Prehrávanie/Pauza Stlačením zapnete |
|  | Ďalšia/ predchádzajúca skladba | • Potiahnutím dopredu prehráte ďalšiu skladbu • Potiahnutím dozadu prehráte predchádzajúcu skladbu |
|  | Ovládanie hlasitosti | • Potiahnutím nahor zvýšite hlasitosť • Potiahnutím nadol znížite hlasitosť |



Opätovné párovanie náhlavnej súpravy:

1. Z lokality <http://www.asus.com> si stiahnite nástroj PairTool a nainštalujte ho v počítači.
2. V ponuke **Start (Štart) > All Programs (Všetky programy)** spustíte nástroj PairTool.
3. USB hardvérový kľúč zasuniete do USB portu počítača a náhlavnú súpravu pripojíte pomocou USB kábla k počítaču.
4. Keď sa farba nástroja PairTool zmení na zelenú, došlo k úspešnému spárovaniu náhlavnej súpravy a hardvérového kľúča.



Starostlivosť o batériu

- Batériu nerozberajte ani nevyberajte. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu alebo fyzickému poraneniu.
- Kvôli vlastnej bezpečnosti dodržiavajte pokyny na výstražných štítkoch.
- Ak batériu vymeníte za nesprávny typ, môže vybuchnúť.
- Batériu nevhadzujte do ohňa.
- Ak z batérie uniká tekutina, zariadenie prestaňte používať.
- Batériu a jej prvky treba recyklovať alebo správnym spôsobom zlikvidovať.
- Batériu a ostatné malé súčasti uchovávajte mimo dosahu detí.

Správna likvidácia



ASUS Phone NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo správne opätovné použitie súčastí a recyklovanie. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a článková batéria s obsahom ortuti) nie je možné likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Overtte si miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov.



Tento výrobok NEVHADZUJTE do komunálneho odpadu. Symbol preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že batériu by ste nemali likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

AURICULARES PARA JUEGOS ROG STRIX FUSION WIRELESS

Contenido del paquete

- 1 x Auriculares para juegos ROG Strix Fusion Wireless
- 1 x Llave USB inalámbrica de 2,4 GHz
- 1 x Cable de carga USB a micro-USB
- 2 x Almohadillas híbridas ROG
- 1 x Guía de inicio rápido
- 1 x Garantía

Requisitos del sistema


- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- Conexión a Internet (para descargar el software opcional)
- Puerto USB 2.0

Procedimientos iniciales

Para configurar su ROG Strix Fusion Wireless:




1. Conecte la llave inalámbrica de 2,4 GHz al dispositivo.
2. Presione el botón de alimentación durante 2 segundos para activar los auriculares ROG STRIX Fusion Wireless, que iniciarán la asociación con la llave automáticamente.


Información general del producto



- A. Almohadillas intercambiables
- B. Botón de alimentación
- C. Indicador de estado
 - Encendido: luz azul permanente
 - Durante la carga: luz roja permanente
 - Totalmente cargado: apagado
 - Carga baja: luz púrpura intermitente
- D. Placa táctil
- E. Conector micro-USB 2.0
- F. Batería de permanente
 - Autonomía de la batería: 16 h
- G. Llave USB inalámbrica de 2,4 GHz

Control de placa táctil

| | | |
|---|------------------------------|--|
|  | Reproducir/Pausar | Presionar para reproducir o pausar |
|  | Canción siguiente o anterior | • Desplazar hacia adelante para reproducir la canción siguiente • Desplazar hacia atrás para reproducir la canción anterior |
|  | Control de volumen | • Desplazar hacia arriba para subir el volumen • Desplazar hacia abajo para bajar el volumen |



Asociar los auriculares de nuevo:

1. Descargue PairTool desde <http://www.asus.com> y, a continuación, instálelo en el equipo.
2. Vaya a **Start (Inicio) > All Programs (Todos los programas)** para iniciar PairTool.
3. Inserte la llave USB en un puerto USB del equipo y los auriculares Fusion Wireless en dicho equipo mediante un cable USB.
4. Cuando el color del área de asociación de PairTool cambie a verde, los auriculares y la llave se habrán asociado correctamente.



Mantenimiento de la batería

- No desmonte ni quite la batería. Si lo hace, se pueden producir daños o lesiones físicas.
- Por su propia seguridad, siga las etiquetas de advertencia.
- Hay riesgo de explosión si la batería se reemplaza por otra de tipo incorrecto.
- No arroje la batería al fuego.
- Deje de utilizar el dispositivo si la batería presenta fugas.
- La batería y sus componentes deben reciclarse o desecharse correctamente.
- Mantenga la batería y otros componentes pequeños fuera del alcance de los niños.

Eliminación adecuada del producto



NO elimine este producto arrojándolo a los residuos municipales. Este producto se ha diseñado para permitir la reutilización adecuada y el reciclaje de sus componentes. El icono de la papelera indica que el producto y sus componentes (eléctricos, electrónicos y pila de botón) no deben ser arrojados a la basura municipal. Consulte la normativa local aplicable para deshechos electrónicos.



NO elimine este producto arrojándolo a los residuos municipales. El icono de la papelera indica que la batería no debe arrojarse a la basura municipal.

GAMING HEADSET

ROG STRIX FUSION KABLOSUZ

Paket içeriği

- 1 tane ROG Strix Fusion Kablosuz mikrofonlu oyun kulaklığı
- 1 2.4GHz kablosuz USB donanım anahtarı
- 1 USB - mikro USB şarj kablosu
- 2 tane ROG Karma kulak yastığı
- 1 tane hızlı başlangıç kılavuzu
- 1 tane garanti belgesi

Sistem gereksinimleri


- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- İnternet bağlantısı (isteğe bağlı yazılımı indirmek için)
- USB 2.0 bağlantı noktaları

Başlarken

ROG Strix Fusion Kablosuz mikrofonlu kulaklığınızı kurmak için:




1. 2.4GHz kablosuz USB donanım anahtarını cihazınıza bağlayın.
2. ROG STRIX Fusion Kablosuz kulaklığınızı açmak için 2 saniye boyunca güç düğmesine bastığınızda otomatik olarak donanım anahtarı ile eşleştirmeye başlayacak.


Düzgün Elden Çıkarma



- A. Değiştirilebilir kulak yastığı
- B. Güç düğmesi
- C. Durum Göstergesi
 - Güç açık: sabit mavi ışık
 - Şarj etme sırasında: sabit kırmızı ışık
 - Tam şarj olduğunda: ışık yok
 - Düşük güç: yanıp sönen mor ışık
- D. Dokunmatik plaka
- E. Mikro USB 2.0 bağlayıcı
- F. Değiştirilemez Pil
 - Pil ömrü: 16 saat
- G. 2.4GHz kablosuz USB donanım anahtarı

Dokunmatik Plaka Kontrolü

| | | |
|---|----------------------|--|
|  | Oynat/Duraklat | Oynatmak/duraklatmak için basın. |
|  | Sonraki/önceki şarkı | • Sonraki şarkıyı çalmak için ileri doğru kaydırın. • Önceki şarkıyı çalmak için geriye doğru kaydırın. |
|  | Ses düzeyi denetimi | • Ses düzeyini artırmak için yukarı doğru kaydırın. • Ses düzeyini azaltmak için aşağı doğru kaydırın. |



Kulaklığı tekrar eşleştirmek:

1. PairTool yazılımını <http://www.asus.com> adresinden indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
2. PairTool'u çalıştırmak için **Start (Başlat) > All Programs (Tüm Programlar)**'a gidin.
3. USB donanım anahtarını bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına ve Fusion Kablosuz kulaklığı da bir USB kablosu aracılığıyla bilgisayarınıza takın.
4. PairTool içindeki eşleştirme alanı yeşil olduğunda kulaklığınız ve donanım anahtarı başarıyla eşleştirilmiş demektir.



Pil Bakımı

- Pili parçalarına ayırmayın veya çıkarmayın. Aksi durumda hasara veya fiziksel yaralanmaya neden olabilir.
- Kişisel güvenliğiniz için uyarı etiketlerine uyun.
- Pilin yanlış türdekiyle değiştirilmesi durumunda patlama tehlikesi vardır.
- Pili ateşe atmayın.
- Pil sızıntısı varsa aygıtı kullanmayı bırakın.
- Pil ve bileşenleri uygun biçimde geri dönüşüme verilmeli veya elden çıkarılmalıdır.
- Pili ve diğer küçük bileşenleri çocuklardan uzak tutun.

Düzgün Elden Çıkarma



Bu ürünü kentsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürün parçaların uygun biçimde yeniden kullanımına ve geri dönüşüme imkan verecek şekilde tasarlanmıştır. Üzerinde çarpı işaretli olan çöp kutusu, ürünün (elektrik, elektronik ekipman ve cıva içerikli düğme hücre) pil) kentsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin atılmasıyla ilgili yerel yönetmelikleri gözden geçirin.



Bu ürünü kentsel atıklarla birlikte atmayın. Çarpı işaretli çöp kutusu sembolü pilin kentsel atıklara karıştırılmaması gerektiğini gösterir.

GAMING HEADSET

ROG STRIX KHÔNG DÂY FUSION

Các phụ kiện kèm theo hộp

- 1 bộ tai nghe chơi game ROG Strix không dây Fusion
- 1 USB phát không dây 2.4GHz
- 1 Cáp sạc USB to micro-USB
- 2 miếng đệm lót tai ROG Hybrid
- 1 tờ hướng dẫn khởi động nhanh
- 1 thẻ bảo hành

Yêu cầu hệ thống


- Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7
- Kết nối internet (để tải về phần mềm tùy chọn)
- Các cổng USB 2.0

Bắt đầu sử dụng

Để thiết lập bộ tai nghe ROG Strix không dây Fusion:




1. Kết nối USB phát không dây 2.4GHz với thiết bị của bạn.
2. Nhấn nút nguồn trong 2 giây để bật tai nghe không dây ROG STRIX Fusion và tai nghe sẽ bắt đầu ghép nối tự động với USB phát không dây


Một số lưu ý khác



- A. Bộ đệm tai có thể thay đổi
- B. Nút nguồn
- C. Đèn báo tình trạng
 - Bật nguồn: đèn xanh lam đứng yên
 - Trong khi sạc: đèn đỏ đứng yên
 - Đã sạc đầy: không có đèn
 - Nguồn pin yếu: đèn tím nhấp nháy
- D. Tầm cảm ứng
- E. Cổng cắm Micro USB 2.0
- F. Pin không thể thay đổi
Tuổi thọ pin: 16 tiếng
- G. USB phát không dây 2.4GHz

Điều khiển tactile cảm ứng

| | | |
|---|---------------------------|--|
|  | Phát/tạm dừng | Nhấn Phát/Tạm dừng để |
|  | Bài hát sau kế tiếp/trước | • Cuộn về phía trước để phát bài hát sau • Cuộn về phía sau để phát bài hát trước |
|  | Nút điều chỉnh âm lượng | • Cuộn lên để tăng âm lượng • Cuộn xuống để giảm âm lượng |



Ghép nối lại tai nghe:

1. Tải về PairTool từ <http://www.asus.com> và cài đặt nó vào máy tính.
2. Vào **Start (Khởi động) > All Programs (Tất cả các chương trình)** để bắt PairTool.
3. Cắm USB phát không dây vào cổng USB trên máy tính và cắm tai nghe không dây Fusion vào máy tính qua cáp USB.
4. Khi vùng ghép nối trong PairTool chuyển sang xanh lục, tai nghe và USB phát không dây đã được ghép nối thành công.



Bảo dưỡng pin

- Không tháo rời hoặc gỡ pin ra. Điều này có thể gây thiệt hại hoặc tổn thương cơ thể.
- Tuân thủ các nhãn cảnh báo để đảm bảo an toàn cá nhân cho bạn.
- Nguy cơ xảy ra cháy nổ nếu pin được thay thế bằng loại pin khác không phù hợp.
- Không ném pin vào lửa.
- Dừng sử dụng tai nghe nếu thấy pin bị rò rỉ.
- Pin và các linh kiện liên quan phải được tái sử dụng hoặc thải bỏ thích hợp.
- Lưu giữ pin và các linh kiện nhỏ khác xa tầm tay trẻ em.

Một số lưu ý khác



KHÔNG vứt bỏ sản phẩm này vào rác thải đô thị. Sản phẩm này đã được thiết kế để cho phép tái sử dụng thích hợp các linh kiện và tái chế. Biểu tượng thùng rác có bánh xe gạch chéo cho biết sản phẩm (thiết bị điện, điện tử và pin kiểu đồng xu chứa thủy ngân) không được thải bỏ vào rác thải đô thị. Kiểm tra các quy định trong nước về việc vứt bỏ các sản phẩm điện tử.



KHÔNG vứt bỏ sản phẩm này vào rác thải đô thị. Biểu tượng thùng rác có bánh xe gạch chéo cho biết pin không được thải bỏ vào rác thải đô thị.

Notices

Federal Communications Commission Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION! Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Canada, Industry Canada (IC) Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Canada, avis d'Industrie Canada (IC)

Cet appareil numérique de la classe B est conforme aux normes ICES-003 et RSS-210 du Canada.

Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas créer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.



电子电气产品有害物质限制使用标识要求：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------------|------------|--------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 印刷电路板及其电子组件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外壳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外部信号连接头及线材 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 其它 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

「產品之限用物質含有情況」之相關資訊，請參考下表：

| 單元 | 限用物質及其化學符號 | | | | | |
|------------|------------|--------|--------|-------------------------|------------|--------------|
| | 鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr ⁺⁶) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 印刷電路板及電子組件 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 其他及其配件 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考 1. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 2. "—" 係指該項限用物質為排除項目。

Limitation of Liability

Circumstances may arise where because of a default on ASUS' part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from ASUS, ASUS is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property; or any other actual and direct damages resulted from omission or failure of performing legal duties under this Warranty Statement, up to the listed contract price of each product.

ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement.

This limit also applies to ASUS' suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and your reseller are collectively responsible.

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS ASUS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; (2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, YOUR RECORDS OR DATA; OR (3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF ASUS, ITS SUPPLIERS OR YOUR RESELLER IS INFORMED OF THEIR POSSIBILITY.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>



DO NOT throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. The symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical, electronic equipment and mercury-containing button cell battery) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



DO NOT throw this product in fire. DO NOT short circuit the contacts. DO NOT disassemble this product.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.

VCCI: Japan Compliance Statement

VCCI Class B Statement

警告 VCCI 準拠クラス B 機器 (日本)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

NCC 警語

無線設備的警告聲明

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

KC: Korea Warning Statement



MSIP-REM-MSQ-P503



RF Exposure Warning

The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CE Marking

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.



RED

"Hereby, ASUSTek COMPUTER INC., declares that this headset is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU."

| Function | Frequency | Maximum Output Power (EIRP) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------|
| 2.4GHz ISM band | 2403.35 - 2477.35 MHz | 2 dBm |

FCC COMPLIANCE INFORMATION

Per FCC Part 2 Section 2.1077



Responsible Party: Asus Computer International
Address: 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.
Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555

hereby declares that the product

Product Name : ROG STRIX Fusion Wireless
Model Number : ROGSTRIX F-WL/BLK/UBD/AS

compliance statement:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ver. 180125

ASUS Contact information

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address 4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei 112, Taiwan
Telephone +886-2-2894-3447
Fax +886-2-2890-7798
Web site www.asus.com

Technical Support

Telephone +86-21-38429911
Fax +86-21-5866-8722, ext. 9101#
Online support <http://qr.asus.com/techserv>

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telephone +1-510-739-3777
Fax +1-510-608-4555
Web site <http://www.asus.com/us/>

Technical Support

Support fax +1-812-284-0883
Telephone +1-812-282-2787
Online support <http://qr.asus.com/techserv>

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax +49-2102-959931
Web site <http://www.asus.com/de>
Online contact <http://eu-rma.asus.com/sales>

Technical Support

Telephone +49-2102-5789555
Support Fax +49-2102-959911
Online support <http://qr.asus.com/techserv>



REPUBLIC OF
GAMERS